

عليه الرحمة

امام احمد رضا

۱۹۱

رحمة الله
عليهم اجمعين

مجاذیب

مفکر عصر
سید صابر حسین شاہ بخاری قادری



رضا اکیڈمی لاہور

جانتے تھے تجھے قطب وابدال سب تیرا کرتے تھے مجذوب و سالک ادب
تیری چوکھٹ پہ خم اہل دل کی جبین سیدی مرشدی شاہ احمد رضا

امام احمد رضا
علیہ الرحمۃ

اور

مجازیب
رحمة الله عليهم اجمعين

تحریر و تحقیق

مفکر عصر سید صابر حسین شاہ بخاری قادری

سلسلہ کتب 229

نام کتاب: امام احمد رضا علیہ الرحمۃ اور مجازیب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین
مصنف: سید صابر حسین شاہ بخاری قادری
نشان منزل: محمد منشا تابش قصوری
صفحات: 37
ناشر: رضا اکیڈمی (رجسٹرڈ) لاہور
ہدیہ: دعائے خیر بحق معاونین رضا اکیڈمی
مطبع: احمد سجاد آرٹ پریس، لاہور فون 7357159

نوٹ

پیر دن جات کے حضرات بیس روپے کے ڈاک ٹکٹ بھیج کر

طلب فرمائیں

رضا اکیڈمی (رجسٹرڈ)

محبوب روڈ۔ رضا چوک۔ مسجد رضا۔ چاہ میراں فون: 7650440

لاہور نمبر ۳۹

حسن ترتیب

انتساب	
نشان منزل	علامہ محمد منشاء، تابش قصوری
جذب کی دنیا	(پروفیسر محمد سرور شفقت)
قطعہ تاریخ	(طارق سلطانپوری)

مجازیب کی عظمت

امام احمد رضا اور مجازیب

- (۱) حضرت بشیر الدین مجذوب علیہ الرحمۃ
- (۲) حضرت سیدی موسیٰ سہاگ علیہ الرحمۃ
- (۳) مجذوب الاولیاء چپ شاہ میاں علیہ الرحمۃ
- (۴) مجذوب زمانہ حضرت دھوکا شاہ علیہ الرحمۃ
- (۵) مجذوب دوراں دینا میاں پبلی بھتی علیہ الرحمۃ
- (۶) مہاتم ثریف کے ایک مجذوب علیہ الرحمۃ
- (۷) ایک گمنام مجذوب علیہ الرحمۃ
- (۸) مجذوب کامل الحاج شاہ نعمت علی خاکی بابا علیہ الرحمۃ

حواشی و حوالے

o

انتساب

بنام مجذوب زمانہ حضرت سید عبداللہ شاہ کاظمی
بھلڑتوپی ثم کامروی علیہ الرحمۃ۔ (م ۱۹۴۵ء)

سید صابر حسین شاہ بخاری

نشان منزل

و فی الفسکم افلا تبصرون

اللہ تعالیٰ کی صنعت گری اور نوع بہ نوع تخلیقات کا ظہور اس کی خصوصی حکمت پر مبنی ہے کیونکہ ”فعل الحکیم لایخلو عن الحکمة“ تو خالق عقل و دانش، صانع علم و حکمت کا ہر فعل بلاشبہ اپنے اندر ہزار ہا حکمتیں لے ہوئے ہے خواہ کوئی اسے پاسکے یا نہ، وہی ہے جو ظاہری و باطنی صورتوں کی تخلیق بطن مادر میں ہی فرما دیتا ہے۔

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ

حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں!

دہد	نطفہ	را	صورتے	چوں	پہری
کہ	کر	دست	بر آب	صورت	گری
نہد	لعل	و	فیروزہ	در	صلب سنگ
گل	لعل	در	شاخ	پیروزہ	رنگ
ازاں	قطرہ	لولوئے	لالہ	کند	
وزیں	صورتے	سرو	بالا	کند	
بامرش	وجود	از	عدم	نقش	بست
کہ	داند	جز	او	کردن	از
				نیت	بست

(بوستانِ ص ۳)

مجذوب بھی اسی کی ایک عمدہ تخلیق ہے، وہ ابتدائے آفرینش سے ہی اس کے منتخب ہیں وہ عشق و مستی کی ان اعلیٰ منازل پر فائز ہوتے ہیں کہ عام انسان ان کی گرو راہ

تک بھی نہیں پہنچ پاتے، ان کی حقیقت سے وہ نا آشنا ہوتے ہیں مجذوب کی ظاہری حالت مستی زدہ ہوشی سے عبارت ہوتی ہے مگر باطن ان کا بحر کاشفہ سے پر ہوتا ہے بارگاہ الہی میں ان کی قبہلیت مسلم ہے سید عالم، فخر صادق نبی مکرم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے، ہونٹ خشک ان کا لباس گرد و غبار سے اٹا ہوا لوگوں کی نگاہ میں ناپسندیدہ مگر خالق حقیقی کی بارگاہ میں ان کا مقام ناز کی حدیں طے کئے ہوئے ہے لہذا قسم باللہ لا برہ! اگر وہ کسی بھی کام کے لیے ذات الہیہ پر قسم ڈال دیں کہ یہ کام ابھی ہو جانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔

جن سادہ لوح بندوں کی قسمیں خدا پوری فرمائے انہیں نگاہ حقارت سے دیکھنا قطعاً اچھا نہیں۔

علامہ اقبال فرماتے ہیں!

خاکساران جہاں را بختارت مگر
توچہ دانی کہ دریں گرد سوا رہا پاشد
نہ دیکھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو
ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں
وہ جذب و مستی کے عالم میں یہاں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اپنا وجود بھی انہیں

نظر نہیں آتا وہ فنایت کی منزل طے کرتے ہوئے پکار اٹھتے ہیں یا اللہ!

جے میں تینوں باہر ڈھونڈاں، میرے اندر کون سانا
جے میں تینوں اندر ڈھونڈاں پھیر مقید جانا
ہر وچ توں ایں ہر شاں توں ایں تینوں ہر توں پاک پچھانا

میں بھی تو ایسے توں بھی توں ایسے پھر بٹھا کون نمانا
حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں!

گر کے وصف اوز من پرسد
بیدل از بے نشاں چہ گوید باز
عاشقان کشتگان معشوقند
بر نیاید ز کشتگان آواز

مزید فرماتے ہیں!

اے مرغ سحر عشق ز پروانہ پیاموز
کاں سوختہ راجاں شود و آواز نیاید
ایں مدعیان در طلبش بے خبر اند
کاں را کہ خبر شد خبرش باز نیاید

(گلستان ص ۸)

مجازیب کے ظاہر احوال سے چشم پوشی کرتے ہوئے ان کے افعال و اعمال کو
خالق خیر و شر کی حکمت محض پر تعبیر کرنا چاہیے ان کا وجود صاحبان علم و فکر اور ارباب
مکاشفہ کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے۔

امام احمد رضا اور مجازیب اپنی نوعیت کا واحد مقالہ ہے جو نہایت دلچسپی اور محبت سے پڑھا
جائے گا جسے وقت کے زود نویس محقق محرم المقام مکرم جناب سید صابر حسین شاہ بخاری
صاحب مدظلہ نے نہایت عرق ریزی غایت محنت اور انتہائی محبت سے مرتب فرمایا ہے
شاہ صاحب اس تیزی اور برق رفتاری سے راہور ارقلم کو چلا رہے ہیں کہ انسان اس
سوچ میں محو ہو جاتا ہے کہ انہیں اپنی دیگر تمام مصروفیات اندورنی بیرونی سے عہدہ برآ
ہونے کے ساتھ ساتھ مطالعہ کا کیسے وقت میسر آتا ہے جب راقم السطور نے اس تازہ

شاہکار کو ملاحظہ کرنے کا شرف حاصل کیا تو یوں محسوس ہوا شاہ صاحب پر جذب و مستی کا عالم طاری ہے اور اسی کیفیت میں لکھتے جا رہے ہیں جمالی و روحانی تصورات کو کلمات طیبات کی حسین صورت قرطاس ابیض پر سجائے جا رہے ہیں یوں بھی شریعت کے حدود و قیود ہوش و حواس سے متعلق ہے اکبر الہ آبادی اپنے رنگ میں شریعت و طریقت کے موضوع کو نظم کا لباس پہناتے ہوئے کہتے ہیں۔

شریعت	میں	ہے	قیل	وقال	حبیب
طریقت	میں	محو	حال		حبیب
شریعت	دل		محفل		مصطفیٰ
طریقت	عروج		دل		مصطفیٰ

حقیقت میں مجذوب عشق کے آخری حدود کو جب چھوتا ہے تو بقول بو صیری علیہ الرحمۃ دریافت کرنے پر جذب و مستی کا یوں اظہار کرتا ہے۔

فَمَا لِعَيْنِكَ أَنْ قُلْتَ أَكْفَاهُمَا
وَمَا لِقَلْبِكَ أَنْ قُلْتَ اسْتَفِيقُ يَهُم

○

فَكَيْفَ تَنْكُرُ حَتَّى بَعْدَ مَا شَهِدْتَ
بِهِ عَلَيْكَ غُذُولُ الدَّمْعِ وَاسْتَقَم

○

بہر حال مجاذیب اللہ تعالیٰ کے وہ مخصوص بندے ہیں جنہیں دیگر مخلوق سے کوئی واسطہ و تعلق نہیں ہوتا وہ اند خود نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ پہنتے ہیں نہ نہاتے ہیں انہیں سردی گرمی نفع و نقصان کی خبر تک نہیں ہوتی اگر کسی نے کھلا دیا تو کھاپی لیا، پہنا دیا تو پہن لیا نہلا دیا تو نہلا لیا، سردیوں میں بغیر کپہل چادر لیے سکون، گرمیوں میں لحاف اور ٹریس تو

پرواہ نہیں۔

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بار اس منزل کو طے فرمایا تھا ”اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا تھا کہ جب تک تو نہیں کھلائے گا میں کھاؤں گا نہیں، چنانچہ فرماتے ہیں مجھ پر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ میں بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا کئی روز سے کھایا پیا نہیں تھا، میرے سامنے ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے جب وہ اپنے منہ میں لقمہ ڈالتا تو میرا منہ خود بخود کھل جاتا مگر میں نے طلب کا منہ بند کر رکھا تھا آخر ایک وقت ایسے آیا کہ ایک صاحب کھانا لائے مجھے کہنے لگے کھائیے میں نے انکار کیا، اس نے میرے منہ میں لقمے ڈالنے شروع کر دیئے اب میرا وعدہ پورا ہو چکا تھا سو میں نے کھالیا گو میری ذاتی خواہش پھر بھی نہیں تھی اس لیے کہ میری خوراک تو محبوب کا ذکر ہی تھی۔

و ذکرک سیدی اکل و شربی
و وجھک ان راہت شفا دالی

رضا اکیڈمی دنیائے اسلام میں واحد ادارہ ہے جس نے اپنے قیام سے تا اس دم الاھوں کتابیں خوبصورت، عمدہ ترین اور اعلیٰ معیار میں شائع کر کے ایک نام پیدا کر لیا ہے یہ تمام تر کرم محبوب اکرم، قاسم نعیم الہیہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جن کی نگاہ رحمت سی بات بنی ہوئی ادارہ جناب سید صابر حسین شاہ بخاری صاحب کا شکر گزار ہے کہ ایسے عمدہ مقالات سے رضا اکیڈمی لاہور کی قلمی معاونت میں بڑے اخلاص کا مظاہرہ فرما رہے ہیں اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترم و مکرم جناب الحاج محمد مقبول احمد ضیائی قادری مدظلہ کو صحت و سلامتی سے ہمیشہ بہرہ مند فرمائے جن کی مساعی جمیلہ سے ادارہ کو اللہ تعالیٰ نے عروج و بلندی اور قبولیت کی نعمت سے نوازا آخر میں ان تمام معاونین کا شکر یہ ادا کیا جاتا ہے جن کی مالی امداد نے رضا اکیڈمی کو فعال ادارہ بنانے میں راستے ہموار کیے۔
نقط: محمد منشاء تابش قصوری مرید کے

جذب کی دنیا

پروفیسر محمد سرور شفقت سابق ڈپٹی وائس چانسلر کینڈا کالج حسن ابدال

سالک شریعت و طریقت کا جامع ہوتا ہے جب کہ مجذوب حالت جذب میں ہونے کی وجہ سے باہوش نہیں ہوتا اس لیے شریعت کا مکلف نہیں لیکن سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی شریعت مطہرہ کا مقابلہ نہیں کرے گا یعنی باوجود جذب کے شرعی احکام کو چیلنج نہیں کرے گا حضرت بوعلی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”مجذوب کی پہچان دُور و شریف سے ہوتی ہے اس کے سامنے دُور و پاک پڑھا جائے تو مودب ہو جاتا ہے۔“ بعض لوگ پیدائشی مجذوب ہوتے ہیں اور بعض پر روحانی منازل طے کرتے ہوئے کسی مرحلہ پر جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور کچھ نفوس قدسیہ غلبہ شوق اور فور عشق سے زندگی کے آخری سالوں میں عالم استغراق میں چلے جاتے ہیں۔

حضرت شیخ محی الدین ابن عربی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ”کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے“ جیسے حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

”میں بدر کامل نبی مکرم ﷺ کے قدم مبارک پر ہوں،“

حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں، کہ جب رسول پاک ﷺ کا قدم مبارک آپ کے سر کا تاج ہے تو آپ (سیدنا غوث الاعظم) کا قدم اقدس تمام دنیا کے سر کا تاج ہے“

حالت جذب والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہیں کیونکہ آپ کوہ

محور پر تجلیات الہی کی تاب نہ لا کر عالم جذب میں مست ہو گئے مجذوب کو جذب کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے قرب کے ذریعے حاصل ہوتی ہے یعنی مجذوب وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا ہو یہ عطیہ الہی ہے۔

سالک لطائف روحانی کی بیداری سے درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہے اس وجہ سے اس کے شعور کی سکت قائم رہتی ہے اور اس کا شعور مغلوب نہیں ہوتا۔

جب کہ مجذوب لطائف کی بیداری سے یکدم روحانیت کی بلند منزلوں میں مستغرق ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کی شعوری صلاحیتیں مغلوب ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہوش و خرد سے بے نیاز ہو کر دنیاوی دلچسپیوں سے لاتعلق ہو جاتا ہے۔

حضرات صالحین کی جماعت نے حجابات کے چار دائرے بیان فرمائے ہیں پہلا دائرہ ناسوت دوسرا دائرہ ملکوت تیسرا دائرہ جبروت اور چوتھا دائرہ لاہوت ہے ان میں سے تیسرا دائرہ جبروت انتہائی مشکل اور کٹھن ہے کہ بڑے بڑے طالبان معرفت عرفان بحر میں غوطہ زنی کرتے ہوئے جب اس دائرہ جبروت میں آتے ہیں تو گرداب میں پھنس کر رہ جاتے ہیں اور دائرہ لاہوت کی طرف سفر نہیں کر پاتے اور مجذوب بھی اسی دائرہ جبروت کی مشکل راہوں میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں خوش بخت انسان وہ ہے جو مرشد کریم کی نظر کامل سے اس دائرہ جبروت کی بھی لا کر دے اور لاہوت کی وادی مقدس میں اپنا قدم رکھے۔

(ع) کوئی دریاں موتی لے تریاں

مکونی نظام میں اختیار، ابدال، ابرار، نجباء اوتاد، نقباء اور قطب پر مشتمل روحانی نظامیہ باہوش نفوس قدسیہ کی جماعت ہوتی ہے جو سزا قدر کی معرفت اور نظرت کی مشیت کا ادراک رکھتی ہے یہ نفوس مشیت الہی کے مطابق عمل پیرا رہتے ہیں مجذوبوں

کے سپرد بھی حلقے ہوتے ہیں جنہیں اس نظام کے محتسب کہہ سکتے ہیں۔ ان کے چوک اور ہوشیار رہنے سے حادثات سے بچاؤ رہتا ہے اور جرائم میں کمی۔

انہیں عموماً اپنے تئیں ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن جہاں بہت ضرور ہو تو وہ اپنے آپ کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں مثلاً کوئٹہ کے 1935ء کے ہولناک زلزلے سے قبل بھی ایک مجذوب کوئٹہ کے بازاروں اور گلیوں میں یہ صدا لگاتا جا رہا تھا۔

”لوگو! شہر چھوڑ دو زلزلہ آ رہا ہے“

مجذوب کے شہر چھوڑتے ہی زلزلہ نے کوئٹہ میں تباہی مچادی۔

اپنے عہد کے مشہور مجذوب حضرت سید عبداللہ شاہ علیہ الرحمۃ (جن کے نام کتاب کا انتساب کیا گیا ہے اور جن کا مزار مبارک ٹیکسلاہری پور روڈ براستہ فاروقی احاطہ بس سٹاپ کامرہ مشرقی میں مرجع خلافت ہے) کے بھی کئی واقعات زبان زد ہیں 1947ء سے بہت پہلے ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ”انگریز ملک جائیں گے“

حسن ابدال میں بھی اکثر و بیشتر ادوار میں کسی نہ کسی مجذوب کو دیکھا گیا ہے۔ قریب میں ایک مجذوب جو ”دائرہ سائیں“ کے نام سے مشہور تھے اور ان کا اکثر حسن ابدال اور اس کے مضافات میں ہوتا وہ سیف زبان تھے جو بات ان کی زبان نکلتی وہ ہو کر رہتی۔

اور اب وہ چند سالوں سے نظر نہیں آ رہے حسن ابدال میں ایک مجذوب گذشتہ کئی سالوں سے سڑک کے کنارے کسی نہ کسی مقام پر بیٹھے دکھائی دیتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بہت تیزی کے ساتھ حرکت دیتے رہتے ہیں۔

اگرچہ دنیائے تصوف میں سالکوں کی اکثریت رہی ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنے رنگِ جلالی میں نمایاں رہے ایوب خان کے عہد میں حضرت لعل شاہ کوہ مری والوں کا بڑا شہرہ تھا اب سو راسی شریف تحصیل مری میں ان کا مزار جذب کا مظہر ہے۔

زیر نظر مقالہ ”امام احمد رضا اور مجاذیب“ میں محترم سید صابر حسین شاہ ہی صاحب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کی زندگی کے ایک منفرد گوشے کو مستند حوالوں کے ساتھ سامنے لائے ہیں اس سے امام احمد رضا علیہ الرحمۃ کی مجاذیب سے محبت اور پیب کی جانب سے اعلیٰ حضرت کے احترام کے تابناک پہلو سامنے آتے ہیں۔

محترم سید صابر حسین شاہ بخاری اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کی علمی، تبلیغی، سیاسی حانی خدمات کے حوالہ سے ایک درجن سے زیادہ کتابیں ترتیب دے چکے ہیں۔ ان میں اکثر شائع ہو چکی ہیں اور اہل سنت کے حلقوں میں ان کتابوں کو بڑی قدرتی ملی ہے خاص طور ”قائد اعظم کا مسلک“ تو علمی حلقوں سے بجا طور پر خراج حاصل کر چکی ہے قریباً پانچ سو صفحات پر مشتمل یہ تحقیقی کتاب قائد اعظم رحمۃ اللہ زندگی کے بہت سے روحانی پہلوؤں کو سامنے لاتی ہے۔

پیش نظر مقالہ میں فاضل مصنف نے عظیم اور معروف اولیاء کرام کے ارشادات نشی میں مجذوب کی جامع تشریف بیان کی ہے اور اعلیٰ حضرت کی آٹھ مشہور پیب سے ملاقاتوں کا احوال قلمبند کیا ہے۔

قارئین اس مقالہ میں جذب و مستی میں ڈوبے ہوئے قلندرانہ شان کے حاملوں کی زبان سے نکلے ”جملے“ پڑھیں گے تو انہیں ایک عجیب کیف و سرور محسوس نخل مرتب نے مقالہ کے آخر میں مآخذ و مراجع کا ذکر کر کے محققین کے لیے

آسانی پیدا کر دی ہے۔

اس مقالہ کو شائع کرنے کا اعزاز رضا اکیڈمی لاہور کے حصہ میں آیا ہے رضویا کے حوالہ سے اکیڈمی اب تک مختلف سینکڑوں موضوعات پر کتابیں شائع کر کے لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کر چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل فاضل مرتبہ اکیڈمی کے منتظمین و معاونین کی مساعی جمیلہ کو مقبول و منظور فرمائے اور مزید توفیقا عالیہ سے نوازے۔

آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

پرنسپل

اسلامک انٹرنیشنل سکول

کلمہ چوک دھمیاں روڈ۔ راولپنڈی

۱۰ ربیع الثانی ۱۴۲۵ھ

محمد سرور شفقت

۷۸۶

قطعہ تاریخ (سال طباعت)

مناظر جذب حق (۲۰۰۳ء)

آگہی افزا ہے صابر کا مقالہ بالیقین
کائنات علم و عرفاں کے کئی عالی مقام
صاحبان فہم و دانش ظاہر آمد ہوش و مست
دین و ملت کے مجدد حضرت احمد رضا
بے خود و خود آشنا صاحب جنون و ہوشیار
یہ ہے اک موضوع حیرت خیر بھی دلچسپ بھی

اس سے اک ترتیب دی جا سکتی ہے عمدہ کتاب
دیکھنے میں گرچہ تھے مجذوب تھے حکمت مآب
بلطنا بیدار تھے لیکن بظاہر محو خواب
اک جہل ہے جن کے علم و معرفت سے فیض یاب
ان بزرگوں سے بھی رکھتے تھے رابطہ آں جناب
بہر تحقیق اس کا صابر نے کیا ہے انتخاب

میں نے یوں طارق کہی لطف سروش غیب سے

اس کی تاریخ طباعت ”شان ہوش و انجذاب“

۱۴۲۵ھ

نتیجہ فکر: محمد عبدالقیوم طارق سلطانپوری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مجازیب کی عظمت

یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ مجازیب اولیاء کرام کی ایک جماعت ہے جو احکام شرع کی مکلف نہیں ہوتی۔ ان سے قلم شریعت اٹھ جاتا ہے۔ ان کی تقلید نہیں کی جاسکتی لیکن ان کی عظمت و رفعت کو صوفیاء کرام نے تسلیم کیا ہے۔ اولیاء کرام کے تذکروں میں سالکین کے ساتھ ساتھ مجازیب کا ذکر خیر بھی ملتا ہے۔

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے ”اخبار الاخیار“ میں مجذوبوں کے حالات پر ایک الگ باب لکھا ہے۔ مفتی غلام سرور لاہوری علیہ الرحمۃ نے ”خزینۃ الاصفیاء“ اور ”حدیقتہ الاولیاء“ میں مجذوبوں کے حالات قلم بند کیے ہیں۔ جناب محمد اسحاق بھٹی نے فقہائے پاک و ہند جلد سوم مطبوعہ لاہور ۱۹۸۹ء کے صفحہ ۵۸ اور ۶۰ پر دو مجذوبوں کا ذکر کر کے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی اپنی کتابوں ”ارواح ثلاثہ“ ”جمال الاولیاء“ اور ”امداد المشتاق“ وغیرہ میں مجازیب کا ذکر خیر کیا ہے اور ان کی عظمت کو تسلیم کیا ہے۔ صوفیاء کرام اور علمائے کرام نے مجازیب کی تعریف کچھ ان الفاظ میں کی ہے۔

مولانا غلام دستگیر نامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

”مجزوب صیغہ مفعول ہے۔ مصدر جذب سے جس کے معنی ہیں کھینچنا اور لے جانا۔ صیغہ فاعل جاذب ہے بمعنی جذب کرنے والا، اپنی طرف کھینچنے والا لہذا مجذوب وہ ہے جو کسی کی طرف کھینچا گیا ہو اور اس کا اطلاق ”اللہ مست“ پر کیا جاتا ہے یعنی وہ

شخص جسے جاذب حقیقی (اللہ تعالیٰ) تکلفات دنیا سے بے نیاز کر کے اپنی طرف کا کر لے۔“ (۱)

اسی طرح مختلف لغات میں بھی مجذوب کے معنی کھینچا ہوا، محبتِ خداوندی میں مدہوش“ کے دیئے گئے ہیں۔ (۲)

ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب اپنے مقالہ ”ڈاکٹریٹ“ میں لکھتے ہیں:
 ”اولیاء اللہ کی اصطلاح میں ”مجذوب“ وہ شخص کہلاتا ہے جو بے اختیاری طور پر ایک ایسی حالت میں مبتلا ہو کہ اس پر شریعت کے قواعد و ضوابط کا اطلاق نہ ہوتا ہو۔ اس کی یہ حالت اختیار سے باہر ہوتی ہے کیونکہ خود سے اس حال میں مبتلا ہونا صوفیاء کے نزدیک ناپسندیدہ ہے کیونکہ شانِ عبدیت اللہ کی بندگی میں ہے اور مجذوب پر ایک ایسی کیفیت طاری رہتی ہے کہ وہ مکلف نہیں کہلاتا بلکہ مجبور و معذور کہلاتا ہے۔“ (۳)

خواجہ شاہ محمد عبدالصمد فریدی فخری چشتی علیہ الرحمۃ رقم طراز ہیں:

”مجذوب وہ ہے کہ جس پر جذبہ الہی ایسا طاری ہو کہ ایک آن میں اسے واصل بحق کر دے اور تمام مقامات عروج بلا کسب و مجاہدہ اس کے طے ہو جائیں اور وہ مستغرق و محو ذات ہو جائے اور اس عالم سے بالکل بے خبر ہو جائے اور بحر عشق، دریائے توحید میں مست و بے خود ہو جائے۔ اس وجہ سے ان پر قانون شریعت نافذ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہ حالت سکر میں رہتے ہیں اور مقام بقاء بعد الفناء میں نہیں آتے۔“ ملخصاً (۴)

مولانا شاہ خالد میاں فخری یوں گویا ہیں:

”مجذوب وہ بندہ جس پر خالق و مالک کی نظر ہو جائے اور بغیر ریاضت و مجاہدہ کے مقامات و مدارج تک رسائی حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں پہنچا ہوا، یاد الہی میں مستغرق۔“ (۵)

”مقامات زواریہ“ کی یہ چند سطور ملاحظہ فرمائیے:

”ایک دفعہ مجذوبوں کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ مجذوب اور دیوانے میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگ تکوینی امور کیلئے مقرر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی عقل سلب فرمالتا ہے تاکہ وہ امور شرعیہ کے مکلف نہ رہیں اور تشریحی احکام کی بجائے صرف سپرد کردہ تکوینی امور میں مشغول رہیں کیونکہ وہی ان کی عبادت ہے۔“ (۶)

علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمۃ نے مجذوبوں کی عظمت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

”بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کے مصداق مجذوب اولیاء ہیں۔ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رُبَّ اشعث اغبر مدفوع بالابواب لوقسم علی اللہ لابرہ یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بال الجھے ہوئے اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے خستہ حال ہوتے ہیں کہ اگر وہ لوگوں کے دروازوں پر جائیں تو لوگ حقارت سے انہیں دھکا دے کر نکال دیں لیکن خدا کے دربار میں ان کی محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ کسی بات کی قسم کھالیں تو پروردگار عالم ضرور ضرور ان کی قسم پوری فرمادیتا ہے اور ان کی منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔“

گفتہ او گفتہ اللہ بود

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

ان کا کہا ہوا کلام اگرچہ اللہ کے بندے کی زبان سے نکل رہا ہے مگر تم یہ سمجھو کہ وہ

اللہ کا فرمان ہے جو ایک بندے کی زبان سے نکل رہا ہے گویا جو کچھ ان کی زبان سے نکل

جاتا ہے وہی تقدیر الہی ہوا کرتی ہے۔

حضرت مولائے روم انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ

بے ادب ہرگز باشی بالنگ

ہست او دریائے وحدت را نہنگ

خبردار! ہرگز مجذوبوں کے ساتھ کبھی بے ادبی مت کرنا یہ لوگ دریائے وحدت

کے مگرچھ ہیں جس طرح مگرچھ دریا میں بے خوف و خطر پھرتا ہے اسی طرح یہ لوگ ہر خوف و غم سے بے نیاز ہو کر دنیا میں چلتے پھرتے رہتے ہیں۔

گرچہ ظاہر می شود از خاکسار

باطنش از نور معنی بر شمار

اگرچہ ظاہر میں یہ لوگ خاک آلود میلے کھیلے ہوتے ہیں مگر ان کے باطن نور

حقیقت سے مالا مال سمجھو۔

قبل مردن خویش را فانی کند

در جہان دین سلطانی کند

یہ لوگ موتوا قبل ان تموتوا پر عمل کرتے ہوئے موت سے پہلے ہی فانی ہو

جاتے ہیں مگر دین کی دنیا میں یہ لوگ بادشاہی کرتے ہیں۔ (۷)

امام احمد رضا اور مجاذیب

امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

”سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا۔“ (۸)

ایک دوسرے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں۔

”ہاں وہ (مجازیب) خود سلسلے میں ہوتے ہیں ان کا کوئی سلسلہ نہیں ان سے

آگے پھر نہیں چلتا۔“ (۹)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ عالم اسلام کی ایک ایسی شہرہ آفاق اور ہمہ گیر شخصیت ہے کہ ان کے علمی جلال کے سامنے ان کے معاصرین نے سر تسلیم خم کر دیا۔ علماء کرام اور صوفیائے عظام نے انہیں اپنا قائد بنا لیا اور شرعی فیصلوں میں ان کے فتاویٰ کو حرف آخر سمجھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ اکابر اولیاء کرام کا نہایت ادب و احترام کرتے اور اولیاء کرام بھی ان پر اپنی نظر توجہ فرماتے اور شفقت و محبت سے نوازتے تھے۔

اولیاء کرام سے محبت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کو ورثہ میں ملی تھی۔ جب بھی کسی بزرگ کا حال معلوم ہوتا تو آپ حصول دعا و برکت کیلئے ان کی خدمت میں پہنچ جاتے تھے۔ حتیٰ کہ مجاذیب کی خدمت میں بھی چلے جاتے اور مجاذیب جو شرعاً مرفوع القلم

ہوتے ہیں آپ کی عظمت و رفعت کے سامنے جبین احترام خم کر دیا کرتے تھے۔ قطب
الارشاد اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ الرحمۃ اور ان کے زمانہ کے چند مجاذیب کے
آپس میں انسیت کے لازوال واقعات درج کیے جاتے ہیں۔ پڑھئے اور مجدد وقت
امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ کی عظمت و رفعت کے سامنے اپنا سر نیاز جھکا
دیجئے۔

جانتے تھے تجھے قطب و ابدال سب تیرا کرتے تھے مجذوب و سالک ادب
تیری چوکھٹ پہ خم اہل دل کی جبین سیدی مرشدی شاہ احمد رضا

حضرت بشیر الدین مجذوب علیہ الرحمۃ

بریلی شریف میں حضرت میاں بشیر الدین مجذوب علیہ الرحمۃ کا شہرہ تھا، سہارا شہر ان کا معتقد تھا۔ ہر وقت لوگوں کا جم غفور ہوتا تھا۔ مجذوب علیہ الرحمۃ خوش ہوتے تو کھلکھلا کر ہنستے، عالم غضب میں ہوتے تو آنے والوں کو مجذوبانہ الفاظ سے نوازتے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے اپنے خاندان کے بزرگوں سے جب ان کی شہرت سنی تو آپ کے دل میں ان کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا تو دس برس کی عمر میں تن تنہا ایک بڑے معمر مجذوب کی خدمت میں پہنچ گئے۔ پورا واقعہ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمۃ کی زبان فیض ترجمان سے سنئے:

”بریلی میں ایک مجذوب بشیر الدین صاحب اخوندزادہ کی مسجد میں رہا کرتے تھے جو کوئی ان کے پاس جاتا کم سے کم پچاس گالیاں سناتے، مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق ہوا۔ میرے والد ماجد قدس سرہ کی ممانعت تھی کہ کہیں باہر بغیر آدمی کے ساتھ لیے نہ جانا، ایک روز رات کے گیارہ بجے اکیلا ان کے پاس پہنچا اور فرش پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ حجرہ میں چار پائی پر

بیٹھے تھے مجھ کو بغور پندرہ بیس منٹ تک دیکھتے رہے۔ آخر مجھ سے پوچھا صاحبزادہ! تم مولوی رضا علی خان صاحب کے کون ہو۔ میں نے کہا میں ان کا پوتا ہوں، فوراً وہاں سے جھپٹے اور مجھ کو اٹھا کر لے گئے اور چارپائی کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ یہاں تشریف رکھئے۔ پوچھا کیا مقدمہ کے لئے آئے ہو۔ میں نے کہا مقدمہ تو ہے لیکن میں اس لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف دعائے مغفرت کے واسطے حاضر ہوا ہوں۔ قریب آدھے گھنٹے تک برابر کہتے رہے، اللہ کرم کرے، اللہ کرم کرے، اللہ کرم کرے، اللہ رحم کرے اس کے بعد میرے منجھلے بھائی (مولوی حسن رضا خان صاحب مرحوم) ان کے پاس مقدمہ کی غرض سے حاضر ہوئے۔ ان سے خود ہی پوچھا کیا مقدمہ کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، فرمایا مولوی صاحب سے کہنا، قرآن شریف میں یہ بھی تو ہے نصر من اللہ وفتح قریب، بس دوسرے ہی دن مقدمہ فتح ہو گیا۔“ (۱۹)



حضرت سیدی موسیٰ سہاگ علیہ الرحمہ ﴿۲﴾

احمد آباد کے مشہور مجذوب حضرت سیدی موسیٰ سہاگ علیہ الرحمۃ کے مزار پر انوار پر اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ الرحمۃ حاضر ہوئے، ان کی کرامات کا مشاہدہ کیا اور پھر ایک مجلس میں زبان فیض ترجمان سے یوں فرمایا:

”حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور مجاذیب سے تھے، احمد آباد میں مزار شریف ہے، میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں، زنا نہ وضع رکھتے تھے۔ ایک بار قحط شدید پڑا، بادشاہ وقاضی واکا بر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعاء کے لیے گئے، انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں، جب لوگوں کی آہ وزاری حد سے گزری، ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا: مینہ بھیجے یا اپنا سہاگ لیجئے۔ یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح اٹھیں اور جل تھل بھر دیئے۔ ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے قاضی شہر کہ جامع مسجد کو جاتے تھے آئے، انہیں دیکھ کر امر بالمعروف کیا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے، مردانہ لباس پہنئے اور نماز کو چلئے، اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا۔ چوڑیاں اور زیور اور زنا نہ لباس اتار کر مسجد کو ہوئے، خطبہ سنا، جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی، فرمایا: اللہ اکبر میرا خاوند جی لایموت ہے کہ کبھی نہ مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا اور وہی چوڑیاں، اندھی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعض مجاوروں کو دیکھا کہ اب تک بالیاں کڑے جوشن پہنتے ہیں، یہ گمراہی ہے۔ صوفی صاحب تحقیق اور ان کا مقلد زندیق۔“ (۱۱)

﴿۲﴾ مجذوب الاولیاء چپ شاہ میاں علیہ الرحمۃ

مجذوب الاولیاء چپ شاہ میاں علیہ الرحمۃ کا اصل نام شاہ عبدالوحید خان علیہ الرحمۃ ہے۔ آپ پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا۔ کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے اسی لیے ”چپ شاہ میاں“ کے نام سے معروف ہوئے۔ آپ پہلی بھیت کے مشہور و معروف بزرگ ہیں آپ کا مزار بھی پہلی بھیت ہی میں ہے حضرت چپ شاہ علیہ الرحمۃ سٹول کے پا کھڑ کے قریب محلہ ڈوری لال میں جامن کے درخت کے نیچے برہنہ جذب کی حالت میں پڑے رہتے تھے۔ قریب میں آگ سلگتی رہتی تھی۔ ہر وقت ”چپ“ رہتے تھے۔ ایک روز چپ شاہ میاں علیہ الرحمۃ کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمانے لگے ”ہے کوئی، ہے کوئی، ہے کوئی“ اتنے میں ایک شخص ان کے پاس آ پہنچا۔ اس نے کہا، میاں کیا ہے؟ فرمایا، میں برہنہ ہوں، ستر کھلا ہوا ہے ایک مردِ حق آ رہا ہے جلدی سے کوئی کپڑا لاؤ کہ میں اپنے ستر کو چھپاؤں، اس شخص نے کبیل لا کر دے دیا، آپ نے اس کبیل کو اوڑھ لیا اور اپنا ستر چھپا لیا اور کھڑے ہو گئے کسی کے انتظار میں کہ اتنی دیر میں ایک پاکی آئی جس میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ تشریف لا رہے تھے۔ پاکی جب قریب پہنچی تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے فرمایا پاکی روک دی جائے۔ ولی اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، پاکی

رکی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ پاکی میں سے اتر کر چپ شاہ میاں علیہ الرحمۃ کی طرف چلے کہ چپ شاہ میاں صاحب علیہ الرحمۃ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کی طرف دوڑے اور چپٹ گئے۔ معانقہ کے بعد بیس منٹ تک پشتو زبان میں گفتگو فرمائی۔ دونوں شخصیات کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ پاکی میں سوار ہوئے۔ جب پاکی چل دی تو چپ شاہ میاں علیہ الرحمۃ اپنی قیام گاہ پر آئے اور اس کنبل کو اتار کر پھینک دیا اور پھر ویسے ہی برہنہ ہو گئے۔

بہر تعظیم مجذوب چپ شاہ میاں اوڑھیں کنبل ڈھکیں ستر کو بے گماں ہوں کھڑے آپ کے واسطے محی دیں سیدی مرشدی شاہ احمد رضا



مجذوب زمانہ حضرت دھوکا شاہ علیہ الرحمۃ

مجذوب زمانہ حضرت دھوکا شاہ علیہ الرحمۃ بریلی شریف کے مشہور بزرگ ہیں۔ آپ پر بھی اکثر جذب کی کیفیت طاری رہتی تھی۔

۱۳۱۶ھ کا واقعہ ہے کہ حضرت دھوکا شاہ علیہ الرحمۃ، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کی بارگاہ میں تشریف لائے اور فرمانے لگے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت زمین پر نظر آ رہی ہے، آسمان پر نظر نہیں آتی، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے فرمایا حضور پر نور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت جس طرح زمین پر سے اسی طرح آسمان پر بھی۔ اس کے بعد حضرت دھوکا شاہ علیہ الرحمۃ نے پھر عرض کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت زمین پر نظر آ رہی ہے، آسمان پر نظر نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے پھر فرمایا کسی کو نظر آئے یا نہ آئے لیکن میرے آقا شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت بحر و بر، خشک و تر، برگ و ثمر، شجر و حجر، شمس و قمر زمین و آسمان ہر شے پر ہر جگہ جاری تھی، جاری ہے اور جاری رہے گی۔ یہ جواب سن کر حضرت دھوکا شاہ علیہ الرحمۃ چلے گئے۔ حضور مفتی اعظم ہند مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمۃ کی عمر شریف اس وقت 6 سال مگی تھی، آپ کو ٹھے پر تشریف فرما تھے کچھ دیر کے بعد کوٹھے پر سے گر پڑے۔ والدہ صاحبہ نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کو آواز دی اور فرمایا تم ابھی ایک مجذوب سے الجھے اور وہ مجذوب شاید غصے میں چلے گئے، دیکھو جی تو یہ مصطفیٰ رضا کوٹھے پر سے گر پڑے، مجذوبوں سے الجھنا نہیں چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے فرمایا مصطفیٰ رضا کوٹھے پر سے گرے تو لیکن چوٹ نہیں لگی ہوگی دیکھا تو حضرت مسکرا رہے تھے۔ پھر فرمایا مولیٰ تعالیٰ جل و اعلیٰ اگر ایسے

ایسے مصطفیٰ رضا ہزار عطا فرمائے تو خدا کی قسم ان سب کو شریعت مطہرہ پر قربان کر سکتا ہوں لیکن شریعت مطہرہ پر کوئی حرف نہ آنے دوں گا۔ پھر فرمایا یہ مجذوب تو فقیر کے پاس اپنی اصلاح کے لئے تشریف لاتے ہیں اور یہ کام فقیر کے سپرد ہے۔ حضرت دھوکا شاہ صاحب علیہ الرحمۃ زمین کی سیر فرما چکے تھے اب آسمان کی سیر فرمانے جا رہے تھے لہذا اس نظر کی ضرورت تھی جس سے حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات آسمان پر بھی ملاحظہ فرماتے۔ اس لیے فقیر کے پاس تشریف لائے وہ نظر ان کو عطا کر دی گئی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت دھوکا شاہ صاحب علیہ الرحمۃ دوبارہ پھر تشریف لائے اور لپکتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی طرف بڑھ کر معانقہ کیا اور پیشانی چوم لی پھر فرمایا خدا کی قسم جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت زمین پر ہے اسی طرح آسمان پر بھی بلکہ ہر جگہ ہر شے پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے طفیل اب آسمان پر بھی حضور علیہ السلام کی حکومت نظر آ رہی ہے۔ (۱۳)

طوطی ہند مفتی نانپارہ حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد رجب علی صاحب تلمیذ و خلیفہ مفتی اعظم ہند کا بیان ہے کہ حاجی حمایت اللہ صاحب بریلوی نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا کہ بریلی کے مشہور و معروف بزرگ قطب وقت حضرت دھوکا شاہ صاحب علیہ الرحمۃ جب کہیں تشریف لے جاتے راستے میں بچے ملتے تو دعا کیلئے عرض کرتے۔ میاں پاس ہونے کی دعا کر دیجئے تو حضرت دھوکا شاہ صاحب فرماتے جاؤ فیل ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر بچے بلول بوتے پریشان ہوتے تو پھر بلاتے اور فرماتے میرا نام دھوکا شاہ ہے جس کو کہہ دیا پاس ہو جاؤ گے وہ فیل ہو گیا اور جس کو کہہ دیا فیل ہو جاؤ گے تو وہ پاس ہو گیا، جن کا عالم یہ تھا کہ جب وصال کا وقت آیا تو ایک روز پہلے بہشتی کو پیسے دے

آئے، قبر کھودنے والے کو پیسے دے آئے، گھرے والے کو پیسے دے آئے، کفن والے کو، تختے والے کو پیسے دے آئے۔ حاجی حمایت اللہ صاحب کے مکان پر رہتے تھے، رات کو تقریباً دو بجے وصال فرمایا، گھر والوں کو بھی خبر نہیں صبح کو فجر سے پہلے محلہ سوداگران سے پیدل چل کر محلہ ذخیرہ اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے۔ حاجی حمایت اللہ صاحب کے مکان کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ حاجی صاحب باہر آئے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت تشریف لائے ہیں تو قدم بوس ہوئے اور عرض کیا کہ حضور اس وقت کیسے تکلیف فرمائی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم کو کچھ خبر بھی ہے حضرت دھوکا شاہ صاحب نے پردہ فرمالیا۔ حاجی صاحب نے گھر میں جا کر جو دیکھا تو دھوکا شاہ صاحب وصال فرما چکے۔ اللہ اکبر، وصال فرمایا۔ حضرت دھوکا شاہ صاحب کے گھر میں گھر والوں کو بھی خبر نہیں اور اعلیٰ حضرت سوداگری محلے میں رہ کر باخبر ہیں، سبحان اللہ یہ ہیں اللہ والے رہتے ہیں کہیں دیکھتے ہیں کہیں۔ (۱۴)

مجزوب دوراں دینا میاں پیلی بھیتی علیہ الرحمۃ

مجزوب دوراں دینا میاں پیلی بھیتی علیہ الرحمۃ کا شمار بھی نامور مجاذیب میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت شاہ جی میاں صاحب علیہ الرحمۃ کے بہت زیادہ عقیدت مند تھے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت شاہ جی میاں علیہ الرحمۃ نے آپ کو فوری محبت سے گلے سے لگا لیا۔ اسی وقت آپ از خود رفته ہو گئے۔ تارک الدنیا اور صاحب خدمت ہو گئے۔ گھر بار چھوٹ گیا۔ شاہ جی میاں علیہ الرحمۃ کے وصال کے بعد صاحب خدمت ہو کر بریلی چلے گئے۔ بریلی کے لوگ آپ کے بڑے معتقد تھے اور آپ کی بڑی خدمت کرتے تھے مگر آپ کسی شہر میں کہیں مستقل نہ ٹھہرتے تھے۔

مجزوب دوراں دینا میاں پیلی بھیتی علیہ الرحمۃ جب سوداگری محلہ کی گلیوں سے گزرتے تو ہر طرف دیکھتے بھانپتے گھبراتے ہوئے نکل جاتے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کا سامنا نہ ہو جائے ان کی اس قدر احتیاط سے انداز ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے سامنے آنا نہیں چاہتے تھے۔

ایک روز مولانا حسنین رضا خان علیہ الرحمۃ نے دینا میاں علیہ الرحمۃ سے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت قبلہ علیہ الرحمۃ اس وقت باہر پھاٹک میں تشریف فرما ہیں۔ چلئے آپ کو ان سے ملا لائیں آپ اپنی کچی زبان سے انکار کرتے رہے کہ:

”میں نائے جانگو“ جب ان سے زیادہ اصرار ہوا تو بولے:

”مولوی رجا احمد کھان شرے کے بلی

ہیں میں وا کے اگیلا ہر گز نائے جانگو میری

پھج کھلے بھئے ہیں۔“

یعنی: مولوی مولوی احمد رضا ان علیہ
الرحمۃ پابند شرع ولی ہیں میں ان کے
سامنے ہرگز نہ جاؤں گا میرا ستر کھلا ہوا
ہے۔“ (۱۵)۔

مجذوب دنیا میاں علیہ الرحمۃ نے ایک مرتبہ ٹرین کو اپنی کرامت سے روک دیا
تھا۔ شہر بریلی کے ہندو اور مسلمان بھی ان کے نام سے واقف ہیں۔ ایک دن ان کا گزر
محلہ سوداگران میں ہوا جب وہ اعلیٰ حضرت کی مسجد کے سامنے پہنچے تو آپ کا شانہ
اقدس سے تشریف لارہے تھے۔ دنیا میاں آپ کو دیکھ کر بھاگے اور ایک گلی میں جا کر
چھپ گئے۔ لوگوں نے کہا میاں کیوں بھاگتے پھرتے ہو۔ فرمایا کہ بابا مولوا آوت
ہے۔ لوگ بولے کہ مولوی صاحب آرہے ہیں تو کیا ہوا، تو گھٹنوں پر ہاتھ کر فرمایا
”پھرج کھلے بھنے“ یعنی قابل ستر جسم کا حصہ کھلا ہوا ہے لہذا ایسی حالت میں ایک عظیم
المرتبہ پیشوائے طریقت کے سامنے جانا اس کے احترام کیخلاف ہے۔ (۱۶)

مہائم شریف کے ایک مجذوب علیہ الرحمۃ

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ اپنے ممتاز خلیفہ عید السلام مولانا محمد عبدالسلام جبل پوری علیہ الرحمۃ کی دعوت پر ایک بار جبل پور شریف لے گئے وہاں مہائم شریف کے ایک مجذوب کی شہرت سنی تو ان سے ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ عید السلام مولانا محمد عبدالسلام علیہ الرحمۃ اور ان کے صاحبزادے مفتی محمد برہان الحق علیہ الرحمۃ مجذوب کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس ایمان افروز ملاقات کی روداد خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی محمد برہان الحق جبل پوری علیہ الرحمۃ کی زبانی سنئے:

”ایک روز اعلیٰ حضرت نے والد ماجد (مولانا محمد عبدالسلام جبل پوری) سے فرمایا ”آج عصر کے بعد ایک مجذوب بزرگ کی زیارت کیلئے باندرہ چلنا ہے۔ واپسی میں مغرب مہائم شریف میں ادا کر کے دعوت ہے۔ آپ عصر سے پہلے آ جائیں۔“ ہم لوگ حسب ارشاد عصر کے وقت حاضر ہو گئے اور اعلیٰ حضرت کے ساتھ باندرہ پہنچے۔ مسجد کے مشرق کی جانب ایک ٹین کے ہال کے باہر بڑا مجمع تھا۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھ مجمع نے راستہ دیا۔ حضرت کے پیچھے ہم لوگ ہال میں داخل ہوئے۔ تخت پر ایک بزرگ عمامہ باندھے پیرتخت سے لٹکائے بیٹھے ہیں۔ دلائل الخیرات شریف دونوں ماتھ سے آنکھوں کے بالکل متصل پڑھنے میں مصروف ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کتاب بند کر دی۔ اعلیٰ حضرت سے مصافحہ کرتے ہوئے کچھ فرمایا جو میں سمجھ نہ سکا، ہم سب قدم بوسی کر چکے تھے تو ہم سب کو ایک بڑے ہال میں بٹھایا گیا۔ پورا ہال بھرا ہوا تھا۔ چند منٹ بعد وہاں کے منتظم خاص حاجی قاسم آئے۔ اعلیٰ حضرت سے

عرض کیا ”جو لوگ مجذوب صاحب کی زیارت کو آتے ہیں ان کیلئے چاء، کافی، قہوہ تیار رہتا ہے۔ حضرت جو فرماتے ہیں پلایا جاتا ہے۔ آپ حضرات کیلئے دریافت کیا گیا تو فرمایا چاء، کافی، قہوہ میں سے جو حضور فرمائیں وہ اس وقت پلایا جائے۔“

اعلیٰ حضرت نے فرمایا، بزرگ نے چاء، کافی، قہوہ تینوں کا نام لیا ہے اس لیے تینوں کو ملا کر پلایا جائے چنانچہ ایک بڑے سماوار میں تینوں کو ملا کر پلایا گیا۔ ان دنوں بڑے پیالے چلتے تھے بھر بھر دیئے گئے۔ رنگ دیکھا تو کراہت ہوئی مگر لب سے لگایا تو اتنا لذیذ پایا کہ پورا پیالہ صاف کر دیا۔

والد ماجد (مولانا محمد عبدالسلام جبل پوری) نے مجھے آہستہ سے ہدایت فرمائی کہ واپسی کے وقت حضرت کے پیچھے رہنا اور بزرگ کی قدم بوسی کر کے اپنے لیے دعا کی درخواست کرنا۔ واپسی کے وقت میں اعلیٰ حضرت کے پیچھے رہا، جب حضرت مصافحہ کر کے آگے بڑھے، میں نے ان کے قدم پکڑ کر عرض کیا، ”میرے لیے دعائے خیر فرمائیے!“ بزرگ نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، سندھی الفاظ تھے اور اعلیٰ حضرت کی طرف اشارہ کیا:

”اس کے پیچھے چلتا جا، تیرے پیچھے سب چلیں گے۔“

ہم جب واپسی کیلئے گاڑی پر سوار ہوئے، میں اعلیٰ حضرت اور والد ماجد کے درمیان بیٹھا تھا، اعلیٰ حضرت نے مجھ سے فرمایا: ”برہان میاں! آپ نے مجذوب سے کیا کہا تھا؟“ میں نے جو کہا تھا وہ اور اس کا جواب بتایا، اعلیٰ حضرت نے میری پیٹھ پر دست مبارک پھیرتے ہوئے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ تمہیں برہان الحق، برہان الدین، برہان السنۃ

بنائے، آمین“ والد اور چچا نے آمین کہا۔“ (۱۷)

۔۔ ایک گمنام مجذوب علیہ الرحمۃ

حضرت مولانا رحیم بخش آروی علیہ الرحمۃ اپنے مدرسہ فیض الغرباء کے سالانہ جلسوں میں اکثر اپنے پیرومرشد اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمۃ کو دعوت دیتے تھے اور آپ حاضر ہوتے تھے۔ ایک بار آپ آراکی واپسی میں بنارس کے اسٹیشن پر اتر پڑے اور تانگہ بلا کر سوار ہو کر نامعلوم مقام کیلئے روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گیان والی مسجد کے قریب ایک مندر کے پاس ٹھہر گئے۔ اسی دوران ادھیڑ عمر کا ایک شخص بدن میں بھھوت ملے ہوئے تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کے پاس آیا اور کافی دیر تک دونوں ہمکلام رہے۔

اس کے بعد وہ شخص آبدیدہ ہو کر چلا گیا اور آپ بھی باچشم نم واپس لوٹ آئے۔ اعلیٰ حضرت کے خادم صوفی کفایت اللہ کہتے تھے کہ ان دونوں نے کس زبان میں باتیں کیں اور کیا باتیں کیں؟ میں کچھ سمجھ نہ سکا، اعلیٰ حضرت سے دریافت کیا کہ حضور یہ کون تھے؟ آپ نے فرمایا، حاجی صاحب، آم کھائیے پیڑ نہ شمار کیجئے۔ (۱۸)

مست دل مجذوب حق بھی تم سے باادب
اہل باطن کی نگاہوں میں ہو ایسے باوزن

۸۸ مجذوب کامل حضرت الحاج شاہ نعمت علی

خاکی بابا علیہ الرحمۃ

مجذوب کامل حضرت الحاج شاہ نعمت علی خاکی بابا علیہ الرحمۃ (م ۱۳۵۰ھ) گروہ مجاذیب میں تاجدار کی حیثیت رکھتے ہیں حالت کیف و جذب میں بھی شریعت مطہرہ کا پاس و لحاظ اس مرد قلندر کی کتاب زندگی کا دل آویز عنوان ہے

۱۲۸۷ھ میں ددری گاؤں ضلع نسیا مڑھی بہار میں آپ کی ولادت ہوئی آپ صرف چھ دن کے تھے آپ کی والدہ ماجدہ داخ مفارقت دے گئیں تو آپ کو خالہ محترمہ پنڈول بزرگ ضلع مظفر پور لے گئیں۔ اور یہیں نانا جان کے سایہ کرم میں آپ کی پرورش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم پنڈول بزرگ کے مکتب میں حاصل کی بعد ازاں تقریباً بیس میل دور تو رستہ ضلع دربھنگہ کے مدرسہ میں داخل ہوئے۔

ایک دن مدرسہ عشق کے یہ طالب علم چھٹی لے کر گھر آ رہے تھے۔ ابھی آپ نے آدھی منزل طے کی تھی کہ اچانک رحمت الہی کی گھناٹھی اور آپ کے پورے وجود کو تر کر گئی پھر ایک نورانی صورت کے بزرگ ہاتھوں میں ایک تھیلی اٹھائے ظاہر ہوئے اور یہ فرماتے ہوئے ”بچہ تھیلی پکڑو“ تھیلی آپ کے ہاتھوں میں دے کر غائب ہو گئے۔ آپ وہ تھیلی لے کر کافی دیر تک اس نورانی بزرگ کا انتظار کرتے رہے۔ جب آپ وہ بزرگ دوبارہ نظر نہ آئے تو آپ نے اس تھیلی کو کھولا۔ تھیلی کو کھولنا تھا کہ آپ پر ایک وجد و کیف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا آپ ہمیشہ الجھے بال، پریشان حال اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوتے مگر جو فرماتے وہ پورا ہو جاتا۔ جس پر نظر ڈال دیتے اس

کی زندگی میں انقلاب آجاتا اور اگر نگاہیں پھیر لیتے تو پھر تباہی اس کے لیے مقدر ہو جاتی۔

حضرت الحاج شاہ نعمت علی خاکی بابا علیہ رحمۃ اکثر جذب و کیف کے عالم میں رہتے مگر سیرت و کردار کا کوئی گوشہ شریعت سے متصادم نہ ہونے دیا۔ جذب و کیف کے عالم میں بھی نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنا آپ کا طرہ امتیاز تھا۔ سفر و حضر ہر جگہ نہایت پابندی سے نماز ادا فرماتے تھے۔

مجدد اسلام امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ سے آپ کے روابط کے آثار ملتے ہیں۔ آپ ان کے فتاویٰ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ شریعت پر آپ کی استقامت کا جلوہ دیکھنا ہو تو فتاویٰ رضویہ کی ورق گردانی فرمائیے۔ اس کے کئی حصوں میں آپ کے سوالات اور محدث بریلوی علیہ الرحمۃ کے شافی جوابات ملتے ہیں۔

جہاں کہیں آپ شک تردد کا شکار ہوئے فوراً فقیہ اسلام امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ کی بارگاہ میں استفتاء ارسال کرتے اور ان کے فتاویٰ کی روشنی میں قدم اٹھاتے۔

امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ کے مشہور قول ”سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا“ کا کامل نمونہ تھے۔

۱۳ شعبان العظم ۱۳۵۰ھ کو صبح صادق کے وقت فرض نماز کے آخری سجدہ میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔

منہار ضلع حاجی پور میں دریائے گنگا کے کنارے آپ کا مزار پر انوار مرجع خلائق

ہے۔ ۱۶۰

حواشی و حوالے

- 1 ماہنامہ مہر و ماہ لاہور ستمبر 1990ء ص 27
- 2 محمد عبداللہ خویشتگی فرہنگ عامہ مطبوعہ یو پی 1946ء ص 456
- 3 فرید الدین قادری صاحبزادہ: سندھ کے اکابرین قادریہ کی علمی و دینی خدمات مطبوعہ کراچی 1998ء ص 99
- 4 شاہ محمد عبدالصمد فریدی، خواجہ: اصطلاحات صوفیہ مطبوعہ لاہور ص 133
- 5 شاہ خالد میاں فاخری، مولانا: اصطلاحات تصوف مطبوعہ کراچی ص 76
- 6 محمد علی: مقامات زواریہ ص 126
- 7 عبدالمصطفیٰ اعظمی، علامہ: نورانی تقریریں مطبوعہ کراچی 2001ء ص 173
- 8 محمد مصطفیٰ رضا خان نوری، مولانا: ملفوظات اعلیٰ حضرت بریلوی مطبوعہ لاہور ص 208
- 9 محمد مصطفیٰ رضا خان نوری، مولانا: ملفوظات اعلیٰ حضرت بریلوی مطبوعہ لاہور ص 345
- 10 محمد مصطفیٰ رضا خان نوری، مولانا: ملفوظات اعلیٰ حضرت بریلوی مطبوعہ لاہور ص 386
- 11 محمد مصطفیٰ رضا خان نوری، مولانا: ملفوظات اعلیٰ حضرت بریلوی مطبوعہ لاہور ص 208

- 12- محمد امانت رسول قادری، مولانا : تجلیات امام احمد رضا مطبوعہ کراچی
1987ء ص 47
- 13- محمد امانت رسول قادری، مولانا : تجلیات امام احمد رضا مطبوعہ کراچی
1987ء ص 49
- 14- محمد امانت رسول قادری، مولانا : تجلیات امام احمد رضا مطبوعہ کراچی
1987ء ص 50
- 15- حسین رضا خان بریلوی، مولانا : سیرت اعلیٰ حضرت و کرامات مطبوعہ
لاہور ص 99
- 16- بدرالدین احمد قادری، مولانا : امام احمد رضا اور ان کے مخالفین مطبوعہ لاہور
1985ء ص 338
- 17- محمد برہان الحق جبل پوری، مولانا : اکرام امام احمد رضا مطبوعہ لاہور
1981ء ص 80
- 18- سہ ماہی افکار رضا ممبئی جنوری تا مارچ 2001ء ص 26
- 19- سالنامہ یادگار رضا ممبئی 1999ء ص 94 تا 98

خاکساران جہاں رانہقارت منگر
توچہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد



نہ دیکھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو
ید بیضائے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں
(اقبال)



مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر
بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد ﷺ کے غلام اکثر
(اکبرالہ آبادی)

خاکساران جہاں راجھارت منگر
توچہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد



نہ دیکھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو
ید بیضائے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں
(اقبال)



مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر
بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد ﷺ کے غلام اکثر
(اکبرالہ آبادی)